

بینک الحیب لمیٹڈ
بینک چارجز کا شیڈول
یکم جنوری 2023 تا 30 جون 2023 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات
I کیش لیٹرز آف کریڈٹ
AA. اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ	کم از کم (کمیشن)
0.40 فیصد	0.25 فیصد	کم از کم 2200 روپے
0.30 فیصد	0.20 فیصد	کم از کم 2200 روپے
0.17 فیصد	0.10 فیصد	کم از کم 2200 روپے

- a. 10 ملین روپے تک
b. 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک
c. 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

وہی کمیشن ہوگا جو ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔
درج بالا AA-I
1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

AB. زائد المیعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفٹری کو منتقل کرنا
II بارٹر امداد / قرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

1800 روپے (فلیٹ)
1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق
2000 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

III ترامیم:
a. اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو
b. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو
IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:
1 پوزیشن بلز:
میعاد مکمل پر

فی بل 1000 روپے اور اسکے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔
پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1000 روپے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1250 روپے وصول کیے جائیں گے)
فی بل 1800 روپے فلیٹ
مارک اپ پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ
ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت پوزیشن بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ
2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں
a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک
b. اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک
c. لو جمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 54 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 60 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 65 پیسے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم 1250 روپے وصول کیے جائیں گے)
کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعاد ایکسچین کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

- a. تمام ان ورڈ ٹرانزیکشن اوپن ہینڈلنگ چارجز / اکاؤنٹ
b. بنیادی ٹیکس، واپس کیے گئے آئٹمز / بشمول کوریئر چارجز
c. تمام غیر ملکی بلز ٹرانزیکشن / بشمول معاہدہ / اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ / ادائیگی
d. سوفٹ چارجز
- 1500 روپے
یو ایس ڈالر 100 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1000 روپے وصول کیے جائیں گے)
1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور VIC پر لاگو ہیں۔)

VII درآمدات کے مقابل پیگنگی ادائیگی

- a. سوفٹ ٹرانسفر
b. ڈیمانڈ ڈرافٹس
c. سروس چارجز
- 1500 روپے
500 روپے
0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- a. غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر
b. غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر
- IX معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
a. معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
b. درآمدات کے کوٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں
i. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو
ii. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ہو
- غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100
اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے
0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2000 روپے
1200 روپے (فلیٹ)
1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

X ری امبرسمنٹ چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI میج کی ترسیل

- a. فل سوفٹ لیٹر آف کریڈٹ
b. ایل سی میں ترمیم سوفٹ کے ذریعے
- XII ڈسکریٹ دستاویزی ہینڈلنگ
XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سٹیفیکٹ کا اجراء
XIV درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ کا اجراء (ایف آئی)
XV بینک سے بینک کو ایف آئی کی منتقلی
XVI اوپن اکاؤنٹ پر فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی)
XVII دیگر چارجز
- 1800 روپے
750 روپے
80 امریکی ڈالر (یا فارن کرنسی مساوی ہو فارورڈنگ بینک کے)
1150 روپے فی سٹیفیکٹ
100 روپے فی درخواست
500 روپے فلیٹ فی ٹرانزیکشن
500 روپے فی درخواست
سیکشن "F" متفرق کے مطابق

B برآمدات

I لیٹرز آف کریڈٹ

- a. ایڈوانسنگ -
b. امینڈمنٹ ایڈوانسنگ -
c. برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسی ایشن کرنا
d. تصدیق
- 1750 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں
2500 روپے بمعہ کوریئر چارجز
1200 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں
1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز
0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے
کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو
زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

e. برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f. نان ریڈیڈنٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی

g. برآمدی ایل سی کلکشن

II اگر ایکسٹرنل ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسی ایشن کے لیے بھیجے جائیں۔

III کلکیشنز

a. دستاویزی (جس پر بینک آپ کیچھڑ فرس نہیں کماتا ہو)

IV ڈیوٹی ڈرائیو بینک کلیم کی ہینڈلنگ

V پیمنٹ کوریج سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہوجانے کی صورت میں، کلکیشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پرسروس چارجز

VI سائٹ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز کی ٹیکو ایٹن

VII پیشگی ادائیگی پرسروس چارجز

VIII ایس بی او (اسٹینڈرائزڈ پریپیرڈ آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای/ای ای ایف این اوسی کا اجراء

XII برآمدی ری فنالس درخواستوں پر ہینڈلنگ چارجز

XIII برآمدی ڈولپمنٹ سرچارج

XIV پی آر سی کے اجراء، جانچ پڑتال، دوبارہ تصدیق اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پرسروس چارجز۔ گارمنٹ کی صنعت (سے تعاون) کو سہارہ

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیو (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XVI پروسیڈیورز کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سپورٹ

XVII لائیو فوڈز کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی ٹے کرتا ہے)

XVIII این لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیو پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلکٹ اینکس اے کا اجراء

XXI جہاں برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زرمبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی دستاویزات بذریعہ بینک الحظیب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زرمبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی جگہ ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXII زائد المیاد ایکسپورٹ بلز رپورٹنگ کے ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیو کلیمز کی ہینڈلنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان - ٹیکسٹائل ہینڈلنگ چارجز (انکریمینٹل اسکیمز)

XXIV گندم / گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان - ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر سبسڈی کلیمز کی ہینڈلنگ

XXV کلکیشن دستاویزات کو ٹیکو ایٹن کرنے کے لیے دیگر بینکوں کے نام

XXVI برآمد کا این اوسی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ایف ای کی منتقلی

XXVII بی ایل کو حوالے کرنے / کھولنے کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو این اوسی کا اجراء

XXVIII دوسرے بینک کو برآمد کی حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی، جہاں ہمارے یہاں کوئی دستاویزات کی ہینڈلنگ نہیں کی گئی

XXIX ایل ٹی ایف ایف (ایس بی بی) آپٹیکلیشنز کیلئے ہینڈلنگ چارجز

XXX ایکسپورٹ ڈاکوپمنٹ ریٹرن بغیر ادائیگی کے

XXXI ایکسپورٹ ایڈوائس پیمنٹ کیسز کے سروس چارجز جہاں ای فارم تصدیق ہوا

XXXII سرٹیفکیٹ ایس بی بی پر وول کے ایک سال بعد

XXXIII ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد شیخ شدہ ایف آئی

XXXIV ڈپازٹ کے عوض ایکسپورٹس / غیر ملکی کرنسی کی حوالگی

XXXV ایکسپورٹ پراسیڈر نیلا نریشن سٹریٹجی (ای پی آر سی) کا اجراء۔ ایک سال

XXXVI سے زائد

c. کلکیشن (غیر ملکی کرنسی)

I آؤٹ ورڈز

a. کلیم بلز

b. بنیاد ادائیگی واپس شدہ چیکس

c. لوکل یو ایس ڈالر کلکیشن

d. واپس شدہ لوکل یو ایس ڈالر کلکیشن کے چارجز

1000 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کیے جائیں گے۔

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے فی سمیشن

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

750 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کے وقت فی E فارم -/1100 روپے

-/100 روپے فی شپمنٹ / فی ٹرانزیکشن

-/1000 روپے فی کیس

-/600 روپے

-/1000 روپے فلیٹ

-/1250 روپے۔ بشمول ٹی۔ ٹی سوئفٹ چارجز

2000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے

100 روپے فی ایف آئی فارم

10,000 امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کیلئے 0.50 پیسہ فی امریکی ڈالر یا

دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے مساوی

500 روپے

یوالیس ڈالر 7 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. فنانشل ڈیمانڈ ڈرافٹ FDD

b. ایف ٹی ٹی

c. ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d. ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / ڈاک / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II ان ورڈ

a. ڈی ڈی / ٹی ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریولرز چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

چیکس، ڈرافٹس، ٹی سیز، آئی ایم اوز وغیرہ۔ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کے لیے خریدے گئے

II دیگر چارجز

F: متفرق:

I کورس پونڈنس کے چارجز

II پونج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i. 3500 روپے

ii. جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارج 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

سٹینچ
کوریئر

سوئفٹ

ہر صارف سے 60 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

275 روپے

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

V غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز کی ترسیلات زر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کیلئے، 1500 روپے فی کیس

جہاں ضرورت ہو

یوالیس ڈالر 3 فی ہدایت مع رییمینٹس چارجز

VI فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

a. بینکرز چیک کا اجراء

350 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پر فیس لاگو نہیں ہوگی)۔

b. ایم ٹی، ٹی ٹی کا اجراء

i. ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرا ہونے والے

c. فیکس / ٹی ٹی پر سوئفٹ چارجز

d. پونج

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f. (i) آن لائن کیش جمع کروانا / رقم نکالوانا

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B. اندرون ملک تجارت

I ساقط ایل سیز کی توثیق نوپانے بینفیشری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V ریٹائرمنٹ:

1- مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2- یوزنٹس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c. لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VI کلکیشن

a. دستاویزی (ایل ڈی بی سی اور ایل ای ڈی بی سی)

b. کلین (بشمول چیکس)

c. رجسٹریشن کے بینڈنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پرچر آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a. دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے ہوں

b. دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی شے

کوئی نہیں

کوئی نہیں (اندرون شہر) کوئی نہیں (بیرون شہر)

400 روپے

400 روپے

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

0.50 فیصدی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 1800 روپے

1200 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن، بعد کی فی سہ ماہی کے لیے 0.35 فیصد کی شرح پر

(II) B کے مطابق 900 روپے بمعہ کمیشن

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یوزنٹس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز

500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصدی مہینہ یا اس کا کچھ حصہ

پہلے سے کوڑا ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 46 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 47 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی دن

0.35 فیصد کم از کم 500 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 180 روپے، زیادہ سے زیادہ 750 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے

بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی

خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد

کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ

ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

500 روپے

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا V-I) زائد ہوں گے۔

a. کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحبیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b. بذریعہ فون / فیکس انسٹرومنٹس کی معلومات

c. انسٹرومنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویزی کلکیشنز کے لیے

کلین کلکیشنز کے لیے

200 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

d. اسٹوریج چارجز

e. کوریئر چارجز:

60 روپے

- بینک الحبیب کی برانچوں کے لیے

125 روپے

- دیگر بینکوں کے لیے

C. فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

- منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا مینٹنس)

II رہن اور ہائپوٹھیکیشن پرفنانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہائپوٹھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

a. گودام کا کرایہ

b. گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c. گودام کے معائنے کے چارجز:

i. میونسپل حدود کے اندر

ii. میونسپل حدود کے باہر

d. حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e. اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

(i) بلدیاتی حدود - 1000 روپے کے اندر

(ii) بلدیاتی حدود سے باہر - 2000 روپے فی معائنہ (45-30 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/بیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً فوقتاً

اچانک معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہوں گے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

250 روپے فی ترسیل

g. پلیجڈ کے سامان پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

f. کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

(i.h) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

100 روپے فی رپورٹ

زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 24% سالانہ

4500/- روپے فلیٹ فی NOC

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹیز پر حق تصرف (لین) کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروجیکٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی /

مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء

(صارف کی درخواست پر)

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹر کے پاس جانا ہو تو ایسی

صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سکیورٹی آف ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن / اصل پر

ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرچ / سی ٹی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سکیورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ اسٹیمپ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)

9000 روپے

اصل پر

واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیز رینٹل کی واجب الادا رقم کا 24% سالانہ

600 روپے

اصل پر

100,000 یا اصل پر جو بھی زیادہ ہو

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

a پروسیسنگ فیس

b دستاویز کے چارجز

c ابتدائی تصفیے کے چارجز

d اضافی تخمینے کے چارجز

e تخمینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g چیک واپس ہونے پر چارجز

h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز

i دوبارہ ملکیت کے چارجز

j گاڑی کا ٹیکس

k قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم لون

1.5 ملین تک کے قرضے

1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک

3 ملین سے زیادہ

(ii) ٹریڈرز کیلئے قرضہ

(iii) دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارجز

(iv) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز

(v) واجب الادا قلیل المدتی فنانس کی سہولت

(vi) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں) اصل

(vii) سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں سکیورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن اصل

کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن، ٹرمینیشن چارجز وغیرہ

XI کارپوریٹ کریڈٹ

(ا) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

50 ملین تک کے قرضے

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ 250 ملین تک

250 ملین سے زیادہ 500 ملین تک

500 ملین سے زیادہ

(ب) زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت

XII کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیاد قرضہ کی سہولت

XIII چھپل فنانسنگ

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

XIV اسماں اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) ایس ایم ای صارفین (ایس ایم ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزرویٹو بینکنگ پروڈکٹس، چھپل فنانسنگ، کمرشل وہیکل لیزنگ

کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی برانچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر ڈپازٹ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ

اور نئے صارفین سے لاکرز کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

c لاکر توڑنے/چابی کی تبدیلی کے چارجز

d دیر سے ادائیگی کی فیس (آخری تاریخ سے

30 یوم کی مدت تک رعایتی وقت)

10,000 روپے

25,000 روپے

70,000 روپے

80,000 روپے

100,000 روپے

زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت میں اسکی واجب الادا رقم پر 24 سالانہ کی شرح سے معاوضہ لیا جائے گا۔

2500 روپے

3000 روپے

5000 روپے

10000 روپے

20000 روپے

30000 روپے

50000 روپے

کوئی نہیں

زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 24 سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

24 فیصد ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

چھوٹے لاکر کے لیے 35,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 45,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 60,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 5,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 6,250 روپے

بڑے لاکر کے لیے 8,500 روپے

5000 روپے

500 روپے (اسماں)

650 روپے (میڈیم)

850 روپے (لارج)

E. گارنٹیز

- I. بل آف لیڈنگ / ایگزیکسٹنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایگزیکسٹنٹ کو جاری کردہ گارنٹیز
- II. ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیئر کو جاری کردہ گارنٹیز
- III. دیگر گارنٹیز
- IV. برآمد سے حاصل ہونے والی رقم و دھولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز
- V. دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت :
- a. اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1600 روپے فی سہ ماہی
- b. اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ (کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)
- VI. گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 1000 روپے
- VII. ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنہیں قرضے کی سہولت میسر ہے ") 1500 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی
- VIII. بینشٹری / اسائنٹی کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض بینڈلنگ کلیئر کیلئے سروس 2500 روپے فلیٹ چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی)
- IX. گارنٹی لیٹر کی تہنیک 500 روپے
- X. الیکٹرک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوفٹ چارجز 500 روپے
- نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔ گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F. انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

- (i) انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز 1200 روپے فی ٹرانزیکشن
- (ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 2500 روپے فی ماہ

G. متفرق چارجز:

1. چیکس کی ادائیگی روکنا
2. لوڈ چیکس کا اجراء
3. بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر
4. اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پیشتر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفیکٹ کے اجراء پر
6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء پر
- (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چارجز 500 روپے فلیٹ
8. اُسی دن کا کلیئرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا اور نا کافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی 600 روپے یا 600 روپے سے کم واپس ہو جائے

9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز کوئی چارج نہیں
10. دیگر بینکوں/بچت مرکز سے کوپرز پر منافع وصول کرنے کے کلکیشن چارجز 150 روپے
11. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں 150 روپے فی چیک
12. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء 100 روپے
13. چیک بک کے چارجز (پیشینز اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک) 20 روپے فی لیف
14. اسپشلائزڈ/اتھارائزڈ چیک بک اصل
15. کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چارجز کوئی چارج نہیں
16. کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چارجز 300 روپے
17. کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چارجز کوئی چارج نہیں
18. اکاؤنٹ میٹیننس سرٹیفکیٹ 300 روپے فی سرٹیفکیٹ (کوئی چارج نہیں اگر بینک الحیب سے لون کیلئے درکار ہو)
19. انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ نفٹ 300 روپے فی انٹرومنٹ
20. انٹرسٹی (آؤٹ ورڈ)، چیک کی واپسی کے چارجز 600 روپے فلیٹ
21. بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ
- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک
- 220 روپے
- 330 روپے
- 550 روپے
- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک
- 50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 سیمنٹ انٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں بذریعہ ایک ایم بی 102 منیج)

نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہوں گے۔

22. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ 200 روپے فی سرٹیفکیٹ
23. ایکسپریس چیک بک (10 لیوز) 250 روپے
24. بیننس کا سرٹیفکیٹ 375 روپے فی سرٹیفکیٹ
25. آڈیٹرز کیلئے سٹوفکیٹ برائے بیننس 500 روپے فی سٹوفکیٹ
26. پرانے ریکارڈ کے حصول کیلئے
- 1 سال تک 350 روپے
- 2 سال تک 450 روپے
- 3 سال تک 550 روپے
- 3 سال سے زائد 850 روپے
27. قومی پرائز بونڈ پر بینک چارجز- جیتی گئی رقم کے کلیم پر 150 روپے فی دعویٰ
28. CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چارجز قومی پرائز بونڈ پر- جیتی گئی رقم کے دعوے پر اصل (اگر جیتی گئی رقم/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)
29. اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر/ 500 روپے
- اسٹیل کلیئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر)
30. SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
31. پروسیڈرینل انزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر- ایک سال کے بعد 500 روپے
32. ڈوپلیکیٹ پروسیڈرینل انزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر 700 روپے

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I. ذاتی قرضے کی سہولت

- a. پروسیڈنگ فیس 3,000 روپے
- b. پیٹنٹی ادائیگی کوئی نہیں
- c. تاخیر سے ادائیگی پر چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی کی قسط پر
- d. جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
- e. مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل
- f. قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل

II. کیش فنانس کی سہولت

- a. قانونی دستاویزات کی سہولت / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
- b. پروسیڈنگ فیس 2500 روپے
- c. لی بن مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ) 500 روپے
- d. تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی پر

III. آٹو کے قرضہ جات

- a. پروسیڈنگ فیس 9000 روپے فلیٹ
- (i) نئی گاڑیوں کی 9500 روپے فلیٹ
- (ii) درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) کوئی نہیں
- c. تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی قسط تاخیر ادائیگی
- d. چیکس کے بغیر ادائیگی / واپس ہونے پر چارجز 600 روپے فی کیس
- e. دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو
- f. گاڑی کے معائنے / تفتیش کے چارجز اصل
- g. گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تفتیش کے چارجز اصل
- h. مقدمہ سازی / قانونی چارجز کوئی نہیں
- i. جزوی پری ہیمنٹ فیس / چارجز کوئی نہیں
- j. ذاتی، حادثاتی بیمہ اصل
- k. گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز / سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری اصل جہاں لاگو ہو

IV۔ آٹو لیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- a. پروسیڈنگ فیس فی ٹریچ 0.1 فیصد لیز کی رقم کا یا 8000 روپے۔ جو بھی زیادہ ہو
- b. قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
- c. جلد ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
- d. تاخیر سے ادائیگی کی گئی ادائیگی کے چارجز 24 فیصد
- e. چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 600 روپے فی کیس
- f. دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر پنی گاڑی چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل پر۔ جو بھی کم ہو
- g. گاڑی کے معائنے / تفتیش کے چارجز اصل
- h. مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل

V۔ ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیٹگری II کے تحت ریونیو اسبل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- a. پروسیڈنگ فیس 8000 روپے
- b. جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) کوئی نہیں
- c. تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی قسط تاخیر سے ادائیگی پر
- d. چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 600 روپے فی کیس
- e. جائیداد کے معائنے / تفتیش کے چارجز اصل
- f. وکیل کی فیس اصل
- g. آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس اصل
- h. دستاویزات / اسٹیمپنگ چارجز اصل
- i. کوریئر چارجز (فارن) اصل

VI۔ ہاؤسنگ فنانس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسیدی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیسنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تشخیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

5000 روپے
کوئی نہیں
1000 روپے
600 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VII۔ پرائمری ہسٹریوٹھ بزنس پلان (اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز)

- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیٹمنٹ چارجز
- پروسیسنگ فیس
- معائنے / تشخیص کے چارجز
- وکیل کی تشخیص فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

آئٹریٹ ڈیوری (اے ڈی سی) چینلر

- فنڈ ٹرانسفر کی سہولت
انٹرپرائز فنڈ ٹرانسفر بذریعہ اے ڈی ایم / آئٹریٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

II۔ اے ڈی ایم

- اے ڈی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- اے ڈی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- (i) دیگر بینکوں کے اے ڈی ایم سے کیش نکلوانے پر
- (ii) لوکل بینکس معلوم کرنے کے چارجز
- (iii) اے ڈی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آف نیٹ)
- (iv) اے ڈی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ (آن نیٹ)

100 روپے

23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیپٹ کارڈ

- سالانہ / متبادل - پرائمری
- سالانہ / متبادل - سلیمنٹری
- اے ڈی ایم بین الاقوامی کیش وڈرال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

سلور کارڈ کیلئے 1700 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 2500 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 5200 روپے
سلور کارڈ کیلئے 1250 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1500 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 3000 روپے
3.75 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم
اصل
اصل
اصل
اصل

- h. بین الاقوامی سطح پر بیلنس اکوآری چارجز
i. ویزا آر بیٹریشن چارجز
j. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
- 250 روپے
اصل
3.75 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

IV. موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر

مفت

V. چائنا یونین پے

- a. سالانہ/متبادل - پرائمری
b. سالانہ/متبادل - سپلیمنٹری
c. بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیش وڈرال
d. بین الاقوامی سطح پر بیلنس اکوآری
e. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
f. مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
g. بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
h. مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
i. بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- 1600 روپے
1000 روپے
3.75 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
250 روپے
3.75 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
اصل
اصل
اصل
اصل

VI. یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

- A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت
a. ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر
b. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن
- 25 روپے
25 روپے

VII. پے پاک

- a. سالانہ/متبادل
b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز
c. لوکل ریٹریول کی درخواست کے چارجز
- 1250 روپے
اصل
اصل

نوٹ۔ تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر پے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

(i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔

(ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

(iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII. کریڈٹ کارڈ

- سالانہ۔ پرائمری
 - سالانہ۔ سپلیمنٹری
 - کریڈٹ کارڈ اے پی آر
 - حد سے زیادہ کی فیس
 - تاخیر سے ادائیگی کی فیس
 - کیش ایڈوانس فیس
 - کریڈٹ کارڈ پن کی تبدیلی کی فیس
 - چیک کے واپس ہونے پر فیس
 - فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (مقامی)
 - فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (بین الاقوامی)
 - غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
 - کریڈٹ کارڈ کے متبادل کی فیس
 - ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- کیش منجمنٹ سروسز
- ملک بھر میں کلکیشن سولوشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آئیز کے لیے)
 - بلک سیلرز/ادائیگیاں
 - ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام
 - کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ
 - بینکرز ٹودی ایشو/فلوئشنز (آئی پی او/ایف ایس/رائٹ شیئرز وغیرہ)
 - دیگر کوئی سروس
 - الحیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس)

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریگولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیسنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

UNSC ریزولوشنز کے تحت بلاکڈ / منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان / قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے (بینک کی خدمات کے چارجز کی مد میں 1400 روپے، سی ڈی سی چارجز 400 روپے، یو آئی این چارجز 200 روپے) کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے	(a) GEM اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی) (b) GEM اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)
3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو	(c) بروکر چارجز
(ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو) سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ (روپے میں) (روپے میں)	(d) GEM فیسیلیٹیشن چارجز
199.99 تک 0.10 فیصد 0.01	(e) کسٹومڈیل چارجز
200 سے 399.99 0.075 فیصد 0.15	(f) نکلوانے کے چارجز
400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30	نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)
شیرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ	(g) جمع کروانے کے چارجز
شیرز کے لئے 0.10 روپے فی شیر ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ	(h) ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز) (i) ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)
شیرز کے لئے 0.01 روپے فی شیر ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ	(g) جمع کروانے کے چارجز (h) ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)
شیرز کے لئے 0.010 فی شیر (کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی) شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر	(i) ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز) (h) شیرز کی منتقلی کے چارجز ان/آؤٹ (i) شیرز پلچ فیس

(j) NCCPL چارجز

0.0025 فیصد فی شیئر

(k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی) (NCCPL)

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے

(ا) انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ڈی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز

(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔

تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔

* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

الحبيب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

i بینکرز چیک کا اجراء

ii چیک بک چارجز

iii اسپیشلائزڈ/کسٹمائزڈ چیک بک

iv چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v لوز چیک کا اجراء

vi ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vii کم از کم بیلنس کے چارجز

viii ٹیلیفون بل/موبائل بل کی ادائیگی

ix بینک الحبيب کی کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

x اے نی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ

350 پاکستانی روپے

20 روپے فی لیف

اصل

600 پاکستانی روپے

50 روپے فی لیف

120 روپے ماہانہ فی اکاؤنٹ

مفت

مفت

مفت

مفت IBFT 25,000 روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فنڈز

کی منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ

مہینہ (صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے،

جو بھی کم ہو وصول کیا جائے گا۔

500 پاکستانی روپے فلیٹ

300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

300 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ

600 پاکستانی روپے فلیٹ

120 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

35 پاکستانی روپے

اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

200 پاکستانی روپے

(i) 3500 پاکستانی روپے

(ii) اس میں کوریئر مہنی کے سروس چارجز سمیت کوریئر چارجز کی کٹوتی صارفین کے

اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے

1000 پاکستانی روپے فی پیغام

مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

xi اسی دن کلیئرنگ چیک چارجز

xii اکاؤنٹ سیٹلمنٹس سرٹیفکیٹ

xiii این ایف ٹی کے ذریعے انٹرنیٹ چیکس کلیکشن

xiv انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز

xv بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xvi درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ii) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvii بین الاقوامی ڈاک/کوریئر/سوفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریئر

سوفٹ

xviii ویلکم پیک ڈیلیوری

B ترسیلات زر - غیر ملکی

A بیرونی

(a) ڈیٹا منڈ ڈرافٹس

(a) - یو ایس ڈالر 18 مع بینک چارجز - اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 3 لاگو

ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک

کے ساتھ مینٹین نہ کیا جائے

(b) - مفت - بینک چارجز کا اطلاق ہوگا - اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 3 لاگو

ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک

کے ساتھ مینٹین نہ کیا جائے

(c) - 10 امریکی ڈالر

(d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز - اصل

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس/کوریئر/ڈاک/فیکس/سوفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II اندرونی

MT/TT/DD-(a)

کوئی نہیں۔

300 چارجز

روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

1,200 پاکستانی روپے فی ٹرانزیکشن

2,500 پاکستانی روپے ماہانہ

100 روپے۔

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجراء

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کارپورٹ فولیو سکیورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے نی ایم

(a) - اے نی ایم پن کا دوبارہ اجراء

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
(ii) مقامی بینکس اکوائری چارجز
(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)
(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ (آن نیٹ)

E. ویزہ ڈیوٹی کارڈ

a. سالانہ/متبادل/پرائمری

b. سالانہ/متبادل/سپلیمنٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکلوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بینکس اکوائری چارجز
(i) ویزہ ٹالشی چارجز
(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
(F) الحیب روشن اپنا گھر

- 23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

- سلور کارڈ کے لئے 1,700 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 2,500 روپے، پلائیم کارڈ کے لئے 5,200 روپے
سلور کارڈ کے لئے 1,250 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 1,500 روپے، پلائیم کارڈ کے لئے 3,000 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.75 فیصد
اصل
اصل
اصل
اصل
250 روپے
اصل
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.75 فیصد

- 4,000 روپے
ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں
تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے
600 روپے فی کس
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

- 7,000 روپے فلیٹ
کوئی نہیں
تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے
600 روپے فی کس
100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔
اصل
اصل
اصل
کوئی نہیں
کوئی نہیں
اصل
اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔
اصل
اصل

- (a) پروسیسنگ فیس
(b) ابتدائی تصفیہ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c) دیر سے ادائیگی کے چارجز
(d) ناکارہ واپس کیے گئے چیکس پر چارجز
(e) جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(f) وکیل کی تشخیص کی فیس
(g) آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
(h) دستاویزات اور اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز
(i) کوریئر چارجز (غیر ملکی)
G۔ الحیب روشن اپنی کار
(a) پروسیسنگ فیس
(b) ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c) تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
(d) ناکارہ واپس شدہ چیکس پر چارجز
(e) دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)
(f) گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(g) دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(h) قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز
(i) جزوی ادائیگی فیس/چارجز
(j) ذاتی حادثاتی بیمہ
(k) گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)
(l) گودام کے چارجز
(m) کوریئر چارجز (غیر ملکی)
(n) تصدیقی چارجز

H گیٹ وے ٹوائیکوٹی مارکیٹ (GEM)

(a) GEM اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

(c) GEM فیسیلیٹیشن چارجز

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز

پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

واپسی کی پروسیدنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی)

ڈپازٹ پروسیدنگ فیس

(g) شیئر ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں)

(k) سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کے سالانہ انفرادی اکاؤنٹ چارجز

(پہلے سال لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر روپے 2,000 (1400 روپے بینک کے سہولت

کاری چارجز، 400 روپے سی ڈی سی چارجز، 200 روپے یو آئی این چارجز)

کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو (ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

سیکیورٹی ریٹ کمیشن کم از کم زیادہ سے زیادہ (روپے میں) (روپے میں) (فیصد میں)

199.99 تک -0.10 فیصد 0.01 0.15

200-399.99 0.075 فیصد 0.15 0.30

400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30 0.50

شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

TFCs کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

شیئرز کیلئے -0.10 روپے فی شیئر .

TFC کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے

رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز کے لیے -0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے